

SET-2**Series : GBM/1/C****کوڈ نمبر** 264/1/2
Code No.**Roll No.**

--	--	--	--	--	--	--

رول نمبر

Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

- آپ جانچ لیجئے کہ اس پرچہ میں چھپے صفحات کی تعداد 11 ہے۔
- پرچہ کے اوپر دائیں طرف چھپا کوڈ نمبر طلباء کو اپنی جواب کاپی کے اوپری صفحہ پر لکھنا ہوگا۔
- آپ جانچ لیجئے کہ اس پرچہ میں 23 سوال ہیں۔
- کسی سوال کا جواب لکھنا شروع کرنے سے پہلے اسکا سلسلہ وار نمبر جواب کاپی میں لکھ لیجئے۔
- پرچہ کے سوالوں کو پڑھنے کے لئے آپکو 15 منٹ کا زائد وقت مہیا کیا گیا ہے۔ پرچہ 10 بجکر 15 منٹ تک طلباء میں بانٹ دیا جائیگا۔ 10 بجکر 15 منٹ سے 10 بجکر 30 منٹ تک کے وقت میں آپ پرچہ کے سوالات کو پڑھینگے۔ اس وقت کے دوران آپ سوالوں کے جواب لکھنا شروع نہیں کر سکتے۔

- Please check that this question paper contains 11 printed pages.
- Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 23 questions.
- Please write down the Serial Number of the question before attempting it.
- 15 Minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

اکاؤنٹینسی (کھاتہ داری)**ACCOUNTANCY**

مقررہ وقت : 3 گھنٹے

Time allowed : 3 hours

کل نمبر : 80

Maximum marks : 80

عام ہدایات :

- (i) اس پرچہ کے دو حصے A اور B ہیں۔
- (ii) حصہ A سبھی طلباء کے لئے لازمی ہے۔
- (iii) حصہ B کے دو آپشن ہیں۔ آپشن I (مالیاتی بیان کا تجزیہ) اور آپشن II (کمپیوٹری کھاتہ داری)۔
- (iv) حصہ B سے صرف ایک ہی آپشن کے سوالات کے جواب لکھئے۔
- (v) کسی ایک سوال کے سبھی حصوں کے جواب ساتھ ساتھ لکھئے۔

حصہ - A

(سماجی داری فرموں اور کمپنیوں کے لئے کھاتہ داری)

(Accounting for Partnership Firms and Companies)

1. سبکدوش سماجی دار کے نفع کے حصے کو باقی سماجی دار کس تناسب میں حاصل کرتے ہیں؟
1
2. 'ملازمین اسٹاک آپشن پلان' کا کیا مطلب ہے؟
1
3. اپنے داخلے کے وقت ایک نئے سماجی دار کو ساکھ کے لئے تعاون کیوں کرنا چاہیے؟
1
4. X، Y اور Z حصہ دار تھے اور ان کی نفع و نقصان میں حصہ داری 2 : 2 : 3 کے تناسب سے تھی۔ Z سبکدوش ہو گیا اور اس کی دین داری کی رقم ₹ 85,000 تھی۔ ₹ 5,000 اس کو فوراً ادا کر دیا گیا۔ باقی کی ادائیگی اسے تین برابر سالانہ قسطوں میں 6% سالانہ سود کے ساتھ کرنی تھی۔ Z کی سبکدوش کی تاریخ پر مذکورہ کھاتے کے لئے ضروری روزنامہ اندراج کیجیے۔
1

5. عدالت کے فرمان پر فرم کی تحلیل کے لئے کوئی ایک حالت بیان کیجیے۔
1
6. کیا نفع حصہ داری تناسب میں تبدیلی سا جھے داری کی تحلیل کا سبب ہوتی ہے؛ اپنے جواب کی تائید میں وجہ بتائیے۔
1
7. روئیٹ لمیٹڈ نے ہر ایک 100 ₹ کے 44,000 اکویٹی شیئرز 20 ₹ فی شیئر کے پریمیم پر لوگوں کے لئے جاری کرنے کی تجویز رکھی۔ رقم مندرجہ ذیل طریقہ سے قابل ادا تھی: 30 ₹ درخواست پر؛ 50 ₹ (پریمیم کے ساتھ) الاٹمنٹ پر؛ اور باقی پہلی اور آخری طالبی پر۔ لوگوں نے 40,000 حصص کا چندہ دیا۔ 2,000 حصص کے ایک حصہ دار جس نے پہلی اور آخری طالبی کی ادائیگی نہیں کی کے علاوہ سب قابل ادا رقم وصول ہو گئی۔ جس نے پہلی اور آخری طالبی پر ادا نہیں کیا اس کے حصص ضبط کر لئے گئے۔ روئیٹ لمیٹڈ کے تحتہ توازن میں 'شیئر کیپٹل' دکھائیے۔ 'کھاتوں کے نوٹس' بھی تیار کیجیے۔
3
8. انوج، منوج اور دشا ایک فرم میں سا جھے دار تھے اور نفع و نقصان میں ان کی حصہ داری 1 : 2 : 2 کے تناسب سے تھی۔ یکم اپریل 2016 کو سا جھے داروں کی پونجی بالترتیب 3,00,000 ₹؛ 2,00,000 ₹ اور 1,00,000 ₹ تھی۔ ہر سال فرم اپنی کتاب 31 مارچ کو بند کرتی ہے۔ یکم جولائی 2016 کو دشا کا انتقال ہو گیا۔
(الف) دشا کی موت پر فرم کی ساکھ کی قدر 30,000 ₹ کیا گیا۔
(ب) دشا کی موت کی تاریخ تک نفع میں اس کا حصہ 12,000 ₹ لگایا گیا۔
3 دشا کی موت پر فرم کی کتابوں میں درج بالا کے لیے ضروری روزنامچہ اندراجات کیجیے۔
9. سانشی، مہک اور میگھا کی فرم کی کل پونجی 1,00,000 ₹ ہے اور سود کی بازار شرح 15% ہے۔ گزشتہ تین سالوں کا خالص نفع بالترتیب 30,000 ₹، 36,000 ₹ اور 42,000 ₹ تھا۔ ساکھ کی قدر گزشتہ تین سالوں کے زائد منافع کی دو سالوں کی خریداری پر کرنا ہے۔ فرم کے ساکھ کا حساب لگائیے۔
3
10. ہونم لمیٹڈ نے رام ٹیل لمیٹڈ کی 6,80,000 ₹ کے اثاثہ جات اور 80,000 ₹ کی واجبات کا حصول 7,00,000 ₹ کی خرید قیمت پر کیا۔ 20% رقم کی ادائیگی چیک کے ذریعہ اور باقی ادائیگی 40% کی پریمیم پر 100 ₹ فی اکویٹی شیئر جاری کر کے کیا۔
ان مبادلوں کے لئے ہونم لمیٹڈ کی کتاب میں ضروری روزنامچہ اندراجات کیجیے۔
3

11. پرابوج لمیٹڈ نے مکمل طالبی 10 ₹ فی کے 2,000 شیرز ضبط کر لیے جن پر انہیں 14,000 ₹ وصول ہوئے تھے۔
ضبط شدہ شیرز میں سے 50 شیرز کو 9 ₹ فی شیر کی مکمل ادائیگی پر دوبارہ جاری کر دیا گیا۔
4 شیرز کی ضبطی اور ازسرنو اجراء کی ضروری روزنامچہ اندراجات مکمل کیجئے۔ ضبطی شیر کھاتہ بھی تیار کیجئے۔
12. تویشا اور دیویا ایک فرم کے ساتھ دار تھے جو حیدرآباد میں ٹن خدمات فراہم کر رہے تھے۔ دیویا نے نوٹس کیا کہ دن کے آخر میں بہت سارا کھانا بچ جاتا ہے۔ کھانے کی بربادی سے بچنے کے لئے اس نے مشورہ دیا کہ اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تویشا چاہتی تھی کہ اسے اگلے دن جانے والے کھانے میں ملا دیا جائے۔
اس کے بعد تویشا نے یہ مشورہ دیا کہ اگر منافع میں اس کی حصہ داری بڑھا دی جائے تو بچے ہوئے کھانے کو مفت تقسیم کرنے میں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیویا خوشی سے راضی ہو گئی۔ اس لئے انہوں نے فوری طور پر اپنے منافع تناسب کو 2 : 3 کے تناسب میں بدلنے کا فیصلہ لیا۔ منافع تناسب میں تبدیلی کی تاریخ کو فرم کی ساکھ کی قدر 50,000 ₹ کا اندازہ لگایا گیا۔
(الف) ساکھ کا کھاتہ تیار کرنے کے لئے ضروری روزنامچہ اندراج کیجئے۔
(ب) تویشا اور دیویا کے رویہ سے ظاہر کنہیں دو قدروں کو بیان کیجئے۔
13. مختلف اثاثوں (نقد کے علاوہ) اور تیسری پارٹی کی واجبات کا وصولی کھاتے میں ٹرانسفر کرنے کے بعد 31 مارچ 2016 کو امن اور رجسٹر کے فرم کی تحلیل پر مندرجہ ذیل مبادلوں کے لئے ضروری روزنامچہ اندراج کیجئے۔ وہ نفع و نقصان میں 1 : 2 کے تناسب سے حصہ دار تھے۔
(الف) بٹہ کے تحت 10,000 ₹ کا تبادلہ بل تھا۔ یہ مبادلہ بل ڈریک سے ملا تھا جو دیوالیہ ہو گیا تھا۔
(ب) 30,000 ₹ کے واجب الادا بل جو 30 اپریل 2016 کو قابل ادا تھے، کی ادائیگی 29,550 ₹ میں کی گئی۔
(ج) 30,000 ₹ کے قرض خواہوں نے 10,000 ₹ کا اسٹاک 10 فیصد کے بٹے پر لے لیا اور انہیں باقی ادائیگی نقد کی گئی۔
(د) ایک پرانے ٹائپ رائٹر کو پوری طرح قلم زد کر دیا گیا۔ اس کا تخمینہ قیمت فروخت 600 ₹ تھی۔ اسے رجسٹر نے تخمینہ قیمت سے 25 فیصد کی کمی پر لے لیا۔
(ه) 1,000 ₹ کی تنخواہ پر امن نے تحلیلی عمل مکمل کرنے پر رضامندی دی اور وہ سبھی وصولی اخراجات بھی کرے گا۔ اصل وصولی پر خرچ 800 ₹ کی ادائیگی فرم نے کی۔
(و) تحلیل پر 54,000 ₹ کا خسارہ ہوا۔

14. پریا اور ٹینا ایک فرم میں سا جھے دار ہیں اور ان کی نفع و نقصان میں شراکت 3 : 2 کے تناسب سے ہے۔

31-3-2016 کو فرم کا تختہ توازن مندرجہ ذیل تھا :

رقم (₹)	اثاثہ جات	رقم (₹)	واجبات
2,40,000	متفرق اثاثے	1,60,000	پونجی : پریا
		2,40,000	ٹینا
2,40,000		2,40,000	

پونجی پر 12% سالانہ سود اور پریا کو 2,000 ₹ فی ماہ تنخواہ لگائے بغیر 31-3-2016 کے اختتامی سال کا نفع 60,000 ₹ سا جھے داروں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سال کے دوران پریا نے 16,000 ₹ اور ٹینا نے 8,000 ₹ نکالے۔

6 اپنی ورکنگ نوٹس کو صاف صاف دکھاتے ہوئے غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لئے ضروری روزنامچہ اندراجات کیجیے۔

15. (الف) مندرجہ ذیل 12% قرض ناموں کے اجراء پر روزنامچہ اندراجات کیجیے :

6 کپتن لمٹیڈ نے 100 ₹ فی کے 60,000 ₹ ؛ 12% قرض ناموں کا اجراء 5% کے بٹے پر کیا۔ ان قرض ناموں کی بازادائیگی 110% پر کرنا ہے۔

(ب) مندرجہ ذیل قرض ناموں کی بازادائیگی پر روزنامچہ اندراجات کیجیے :

(i) M لمٹیڈ نے ہر ایک 100 ₹ کے 3,80,000 ₹ ؛ 13% قرض ناموں کی بازادائیگی کی جنہیں

ہر ایک 10 ₹ کے اکویٹی شیئر میں بدل کر جاری کیا گیا تھا۔ اکویٹی شیئر کا اجراء 25% پریمیم پر کیا گیا تھا۔

(ii) ڈالکولمٹیڈ نے فوراً رد کرنے کے لئے اپنے ہر ایک 100 ₹ کے 6,000 ₹ ؛ 10% قرض ناموں کی

خرید 97 ₹ فی قرض نامہ کی شرح سے کی۔

قرض نامہ بازادائیگی ذخیرہ، قرض نامہ بازادائیگی سرمایہ سے متعلق اندراجات نہیں کرنی ہے۔

16. 31 مارچ 2016 کو مدھو اور ودھی جن کی نفع میں حصہ داری 3 : 2 کے تناسب سے تھی کا تختہ توازن مندرجہ ذیل ہے :

رقم (₹)	اثاثہ جات	رقم (₹)	واجبات
3,00,000	زمین اور عمارت	5,20,000	مدھو کی پونجی
2,80,000	مشینری	3,00,000	ودھی کی پونجی
80,000	اسٹاک	30,000	عام ذخیرہ
	دیندار	1,50,000	قابل ادا بل
2,90,000	خسارہ اہتمام		
50,000	بینک		
10,00,000		10,00,000	

1 اپریل 2016 سے مدھو اور ودھی نے گائٹری کو ایک نئے سا جھے دار کے طور پر داخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا نیا منافع تناسب 5 : 3 : 2 ہوگا۔ گائٹری اپنی پونجی کے لئے ₹ 4,00,000 اور ساکھ پر بیم میں اپنے حصہ کے لئے نقد رقم لائی۔

(الف) فرم کی ساکھ کی قدر 3,00,000 ₹ کی گئی۔

(ب) زمین اور عمارت کا تخمینہ 26,000 ₹ سے کم کیا گیا تھا۔

(ج) مشکوک قرضوں کے لئے اہتمام دینداروں کے 5% کے برابر کرنا تھا۔

(د) کام گاروں کے معاوضے کا 6,000 ₹ کا ایک دعویٰ تھا۔

8 ازسرنو اندازہ قدر کھاتہ، سا جھے داروں کے پونجی کھاتے، چالو کھاتے اور ازسرنو منظم فرم کا تختہ توازن تیار کیجئے۔

یا

اتیو، میہا اور نوپور سا جھے دار تھے اور نفع و نقصان میں 2 : 3 : 5 تناسب سے شریک تھے۔ 31-3-2016 کو ان کا تختہ توازن مندرجہ ذیل تھا :

رقم (₹)	اثاثہ جات	رقم (₹)	واجبات
25,000	بینک	26,500	تجارتی لین دار
30,000	دین دار	23,500	ملازمین پروویڈنٹ فنڈ
55,000	اسٹاک	1,00,000	اتیو کی پونجی
1,20,000	قائم اثاثے	50,000	میہا کی پونجی
10,000	اشتہاری خرچ	40,000	نوپور کی پونجی
2,40,000		2,40,000	

1 اپریل 2016 کو اتیو سبکدوش ہو گیا۔ اس مقصد کے لئے مندرجہ ذیل تسویات پر رضامندی ہوئی :

(الف) ساکھ کی قدر سبکدوش کی تاریخ سے قبل تین سالوں کے اوسط نفع کے دو سالوں کی خریداری پر کیا جائے گا۔ 2013-2014 میں ₹ 55,000 ؛ 2014-2015 میں ₹ 65,000 اور 2015-2016 میں ₹ 60,000 گذشتہ سالوں کا نفع تھا۔

(ب) قائم اثاثوں کو ₹ 25,000 سے بڑھانا تھا۔

(ج) اسٹاک کا اندازہ قدر ₹ 5,000 زائد کیا گیا تھا۔

(د) اتیو کو ₹ 20,000 کی ادائیگی فوراً کر دی گئی باقی کو اس کے قرض کھاتے میں منتقل کر دیا گیا۔

ازسر نو اندازہ قدر کھاتہ، سا جھے داروں کے پونجی کھاتے اور ازسر نو منظم فرم کا تختہ توازن تیار کیجئے۔

17. نائٹرو پینٹس لمیٹڈ نے 10 فی کے 1,60,000 اکویٹی شیئرز کو 3 فی حصہ کے پریمیم پر جاری کرنے کے لئے درخواستیں طلب کیں۔ رقم کی ادائیگی مندرجہ ذیل طور پر کرنی تھی :

درخواست پر 6 فی شیئر (1 پریمیم کے ساتھ)

الائمنٹ پر 3 فی شیئر (1 پریمیم کے ساتھ)

پہلی اور آخری طالبی پر باقی سب۔

1,80,000 حصص کے لئے درخواستیں موصول ہوئیں۔ 10,000 حصص کے لئے درخواستوں کو رد کر دیا گیا۔ باقی درخواست کنندگان کو تناسبی بنیاد پر حصص کا الائمنٹ کر دیا گیا۔ درخواست پر حاصل زائد رقم کا الائمنٹ پر واجب رقم میں تسویہ کر لیا گیا۔ آدتیہ کے علاوہ جسے 3,200 حصص کا الائمنٹ کیا گیا سبھی طالبی مانگ لی گئیں اور حاصل ہو گئیں۔ ضبط کئے گئے حصص میں سے نصف حصص کو مکمل ادائیگی کے طور پر 43,000 فی کے لئے دوبارہ جاری کر دیا گیا۔

8 مذکورہ مبادلوں کے لئے نائٹرو پینٹس لمیٹڈ کی کتابوں میں ضروری روزنامہ اندراج کیجئے۔

یا

میڈی لمیٹڈ نے 100 فی کے 27,000 حصص کا اجراء کرنے کے لئے درخواستیں طلب کیا۔ ادائیگی مندرجہ ذیل طور پر کرنی تھی :

درخواست پر 50 فی حصہ

الائمنٹ پر 10 فی حصہ

پہلی اور آخری طالبی پر بقیہ۔

40,000 حصص کے لئے درخواستیں موصول ہوئیں۔ 7,000 حصص کے درخواست کنندگان کو مکمل الائمنٹ کر دیا گیا۔ باقی درخواست کنندگان کو تناسبی بنیاد پر 20,000 حصص کا الائمنٹ کر دیا گیا۔ درخواست پر وصول زائد رقم کا تسویہ الائمنٹ اور درخواست پر قابل ادا رقم میں کر لیا گیا۔

600 حصص کی ایک حصہ دار آشا، جو اس درجہ سے متعلق تھی جسے مکمل الائمنٹ کیا گیا تھا، نے طالبی رقم کو الائمنٹ کے وقت ادا کر دیا تھا۔ انکر جو اس درجہ سے متعلق تھا جسے حصص کا الائمنٹ، تناسبی بنیاد پر کیا گیا تھا نے اپنے 200 حصص پر درخواست کے بعد کوئی ادائیگی نہیں کی تھی۔ ان حصص کو پہلی اور آخری طالبی کے بعد ضبط کر لیا گیا۔ ان حصص کو بعد میں 105 فی حصہ میں مکمل ادائیگی کے طور پر دوبارہ جاری کر دیا گیا۔

جہاں ضرورت ہو ایریر طالبی کھاتہ اور ایڈوانس طالبی کھاتہ کھول کر مندرجہ بالا مبادلوں کے لئے میڈی لمیٹڈ کی کتابوں

میں ضروری روزنامہ اندراجات کیجئے۔

حصہ - B

آپشن-I

(مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ)

(Analysis of Financial Statements)

18. کسی ایسی سرگرمی کی مثال دیجئے جو ہر قسم کی جرأت کاری کے لئے ایک مالیاتی سرگرمی ہے۔

1

19. ایک خاص مدت کے دوران نقد روانی گوشوارہ جرأت کار کی مختلف سرگرمیوں سے 'نقد' اور 'نقد مساوی' اندرون اور

1

بیرون روانی دکھاتا ہے۔ نقد روانی گوشوارہ تیار کرنے کے مقصد سے 'نقد' کا معنی بتلائیے۔

20. (الف) سود اور ٹیکس کے بعد خالص نفع ₹ 1,00,000؛ چالو اثاثے ₹ 4,00,000؛ چالو واجبات ₹ 2,00,000؛

ٹیکس کی شرح 20%، قائم اثاثہ جات ₹ 6,00,000؛ 10% طویل مدتی قرض ₹ 4,00,000

سرمایہ کاری پر حاصل (ریٹرن) کا حساب لگائیے۔

(ب) ایک کمپنی کا لاگت پر کل منافع کی شرح 25% ہے۔ اس کا کل منافع ₹ 5,00,000؛ شیئر ہولڈرس کا

فائدہ ₹ 12,00,000؛ چالو واجبات ₹ 3,00,000 اور چالو اثاثے ₹ 10,00,000 ہے۔

4

اس کا ورکنگ کیپٹل ٹرن اوور تناسب کا حساب لگائیے۔

21. 31 مارچ 2015 اور 2016 کو ختم ہوئے سالوں کے لئے اسٹار لمیٹڈ کے مندرجہ ذیل نفع و نقصان گوشوارے سے

4

عام سائز کا گوشوارہ تیار کیجئے۔

تفصیلات	نوٹ نمبر	2015-16 (₹)	2014-15 (₹)
آپریشن حاصل		25,00,000	20,00,000
ملازمین منافع اخراجات		10,00,000	7,00,000
دیگر اخراجات		2,00,000	3,00,000
ٹیکس شرح 40%			

22. (الف) کمپنی ایکٹ 2013 کی فہرست III کے مطابق مندرجہ ذیل مدت کو عنوان اور ذیلی عنوانوں میں (اگر کوئی ہو) درجہ بند کیجئے :

(i) پونجی کام ترقی پر

(ii) ضمانتوں کا اہتمام

4

(ب) مالیاتی گوشواروں کے تجزیہ کے دو مقاصد بیان کیجئے۔

6

23. مندرجہ ذیل معلومات سے سرمایہ کاری سرگرمیوں سے نقد روانی کا حساب لگائیے :

تفصیلات	31 مارچ 2015 (₹)	31 مارچ 2014 (₹)
زمین پر سرمایہ کاری	22,00,000	12,00,000
10% طویل مدتی سرمایہ کاری	5,00,000	8,00,000
پلانٹ اور مشینری	6,00,000	4,00,000
ساکھ	1,60,000	30,000

اضافی معلومات :

80,000 ₹ کی لاگت کی ایک مشین (جس پر 24,000 ₹ کی فرسودگی لگائی گئی تھی) کو 75,000 ₹ میں فروخت کیا گیا۔ سال کے دوران 90,000 ₹ کی فرسودگی لگائی گئی۔

حصہ - B

آپشن-II

(کمپیوٹر کے ذریعہ کھاتہ داری)

(Computerized Accounting)

18. 'ڈاٹا بیس' کا کیا مطلب ہے؟ 1
19. لچیلے پن طریقہ سے اعداد و شمار کو منظم کرنے، عمل کرنے اور پوچھ تاچھ کرنے کے لئے استعمال کی جانے والے کنہیں دو سافٹ ویئر کا نام بتائیے۔ 1
20. کمپیوٹرائزڈ کھاتہ داری سافٹ ویئر کے کوئی چار فوائد بیان کیجئے۔ 4
21. 'فارم' کا کیا مطلب ہے؟ 'اسپلیٹ فارم'، 'سمپل فارم' سے کس طرح مختلف ہے؟ 4
22. سافٹ ویئر کی اس قسم کا نام بتائیے جو کثیر استعمال کنندگان اور مختلف مقامات پر منتشر بڑی کاروباری تنظیموں کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ وضاحت کیجئے۔ 4
23. 'کنڈیشنل فارمیٹنگ' کو بدلنے کے لئے کئے جانے والے اقدامات مختصراً بیان کیجئے۔ 6

